

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي عِلْمًا نَافِعًا وَاسِعًا عَمِيقًا

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي رِزْقًا وَاسِعًا حَالًا لَا طَبِيبًا  
مُبَارَكًا مِنْ عِنْدِكَ

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حَيَاةَ سَعَادَةٍ وَ مَوْتَ شَهَادَةٍ

سورة الفرقان بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ آیت نمبر 72

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ  
وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

قرآن ہاؤس سوسائٹی (رجسٹرڈ) 24، محمدی پارک، ساندہ خور، ساندہ روڈ، لاہور۔ 0300-4733774



فَ

← اور

الَّذِينَ

← جو اشخاص

مَلَا

← حرف نفی ہے

اور منع کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔

III<sup>rd</sup> Person

فعل مضارع

علامت جمع

يَشْهَدُونَ ← يَشْهَدُونَ ← شَهِدَ

مشاہدہ کیا  
شہادت دی  
گواہی دی

وہ سب مشاہدہ کرتے ہیں یا گواہی دیتے ہیں

الزُّورَ ← جھوٹ، باطل، جعل ساز، بت پرستی

وَ ← اور

إِذَا ← جب

ماضی سے پہلے آتا ہے اور مضارع کے معنی دیتا ہے۔

علامت جمع  
مَرُّوْا ← مَرُّ + وَا ← وہ گزرے  
گزرا ماضی ہے

اذا کی وجہ سے ترجمہ مضارع میں کریں گے

إِذَا مَرُّوْا ← جب وہ گزرتے ہیں

بِاللَّغْوِ ← ب + ال + لغو ← اسم جنس سے

بہودہ - بیکار - بے معنی

ب

سے	کے متعلق	پر	سبب، وجہ	میں	کے ساتھ
بِاللَّغْوِ	بِكُلِّ شَيْءٍ	بِاللَّهِ	بِجَهَالَةٍ	بِالْقَوْلِ	بِسْمِ اللّٰهِ

علامت جمع  
مَرُوْا ← مَرُّوا ← وہ گزرے  
گزرا ماضی ہے

اذا کی وجہ سے ترجمہ مضارع میں کریں گے

کِرَامًا ← شریفانہ طریقہ، پروقار انداز



مَرُوْا كِرَامًا

وہ پر وقار انداز سے گزرتے ہیں

سورة الفرقان بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ آیت نمبر 72

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ


وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

اور جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور ان کا یہودہ (لغو)

چیز پر سے گزر ہو تو وہ وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔



فِي السَّلَامَةِ  
إِلَى الْوَالِدِ



قرآن ہاؤس سوسائٹی (رجسٹرڈ)

24، محمدی پارک، سانندہ خورو، سانندہ روڈ، لاہور۔ 0300-4733774